

A | X

C O N E C T E D



STEP 1:


CHARGE AND POWER ON

Connect your watch to the charger. When your watch is charged, press the button to turn it on.



INPUT: 5V \equiv 0.5A

WARNING: To avoid damage to your watch, only use with included charger. Do not use a USB hub, USB splitter, USB y-cable, battery pack or other peripheral device to charge.



STEP 2:

DOWNLOAD AND PAIR

On your phone, download the Wear OS by Google™ app from the App Store™ or Google Play™ Store. Open the Wear OS by Google™ app on your phone and follow the prompts to pair your watch using Bluetooth™ connection. Once paired, your watch screen will walk you through setup procedures.

For users in China: Download and install the Chinese version of the WearOS by Google™ App from any major app market.



Wear OS by Google



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



Wear OS by Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

For more information on how to use your watch, visit support.google.com/wearos



HEART RATE TRACKING

DAILY USE: Wear the strap above your wrist bone with the watch flat against your skin.

EXERCISE: Tighten the strap and move the watch higher on your wrist. Loosen when done.

TRIN 1: OPLADNING

Forbind dit ur til opladeren. Når dit ur er opladet, trykker du på knappen for at tænde det.

ADVARSEL: Anvend kun sammen med inkluderede oplader for at undgå skade på dit ur.

Anvend ikke en USB-hub, USB-splitter, USB y-kabel, batteripakke eller andet perifert udstyr til at oplade.

TRIN 2: KOM I GANG

På din telefon skal du downloade appen Wear OS by Google™ fra App StoreSM eller Google Play™ Store.

Åben appen Wear OS by Google™ på din telefon og følg anvisningerne på din telefon for at parre dit ur med din telefon. Når de er parret, fører skærmen på dit ur dig gennem opsætningsproceduren.

Besøg axconnected.com for yderligere oplysninger.

Apple og Apples logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. registrerede i USA og andre lande. App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

HJERTEFREKVENS-TRACKER

DAGLIG BRUG: Bær remmen ovenover din håndledsknogle med uret fladt mod huden.

MOTION: Stram remmen og flyt uret højere op på dit håndled. Løsn op når træningen er overstået.

STAP 1: OPLADEN

Slut uw horloge aan op de oplader. Wanneer uw horloge is opgeladen, drukt u op de knop om het in te schakelen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde lader om schade aan uw horloge te voorkomen.

Gebruik geen USB-hub, USB-splitter, USB Y-kabel, batterijpakket of andere randapparatuur om het horloge op te laden.

STAP 2: BEGINNEN

Download de Wear OS by Google™ app op uw telefoon uit de App StoreSM of uit de Google Play™ Store.

Open de Wear OS by Google™-app op uw telefoon en volg de instructies om uw horloge te koppelen met uw telefoon. Na het koppelen begeleidt het scherm van uw horloge u bij de configuratieprocedures.

Kijk ook op axconnected.com voor meer informatie.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geïmponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Wear OS by Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

VOLGEN VAN HARTRITME

DAGELIJKS GEBRUIK: Draag de band om uw pols met het horloge plat op de huid.

TRAINING: Plaats het horloge iets hoger op uw pols en trek de band wat strakker aan. Maak de band na de sessie weer wat losser.

STEG 1: LADDA

Anslut din klocka till laddaren. När din klocka är laddad, tryck på knappen för att slå på den.

WARNING: Använd endast den medföljande laddaren för att undvika skador på klockan.

Använd inte en USB-hub, USB-delare, USB-y-kabel, ett batteripaket eller annan kringutrustning för att ladda.

STEG 2: KOM IGÅNG

På din telefon, ladda ner Wear OS by Google™-app en från App Store™ eller Google Play™ Store.

Öppna appen Wear OS by Google™ på din telefon och följ anvisningarna för att para ihop din klocka med din telefon. När de har parats ihop kommer skärmen på din klocka att vägleda dig genom inställningsprocessen.

Besök axconnected.com för ytterligare information.

Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Wear OS by Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

PULSMÄTNING

DAGLIGT BRUK: Bär remmen ovanför handledsbenet med klockan platt mot huden.

TRÄNING: Dra åt remmen och flytta klockan högre upp på din handled. Lossa när du är klar.

TRINN 1: LADING

Koble klokken til laderen. Når klokken er ladet, trykker du på knappen for å slå den på.

ADVARSEL: For å unngå skade på klokken, bruk kun tilhørende lader.

Ikke bruk en USB-hub, USB-splitter, USB-y-kabel, batteripakke eller andre eksterne enheter for å lade.

TRINN 2: KOM I GANG

På telefonen, last ned Wear OS by Google™-app fra App Store (SM) eller Google Play™ Store.

Åpne Wear OS by Google™-appen på telefonen din og følg instruksjonene for å koble sammen klokken med telefonen. Når de er sammenkoblede, vil klokkeskjermen lede deg gjennom oppsettet.

Gå til axconnected.com for mer informasjon.

Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et varemerke som tilhører Apple Inc. Wear OS by Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

HJERTEFREKVENS MÅLER

DAGLIG BRUK: Fest remmen over håndleddet med klokken flatt mot huden.

TRENING: Stram remmen og flytt klokken høyere på håndleddet. Løsne når du er ferdig.

SCHRITT 1: AUFLADEN

Verbinden Sie Ihre Uhr mit dem Ladegerät. Wenn Ihre Uhr aufgeladen ist, drücken Sie auf die Taste, um sie einzuschalten.

ACHTUNG: Um Schäden an Ihrer Uhr zu vermeiden, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.

Nutze zum Aufladen weder ein USB-Hub noch einen USB-Splitter oder ein USB-Y-Kabel, einen Akku oder sonstige Peripheriegeräte.

SCHRITT 2: LEGEN SIE LOS

Laden Sie die Wear OS by Google™-App über den App StoreSM oder Google Play™ Store auf Ihrem Telefon herunter.

Öffnen Sie die Wear OS by Google™-App auf Ihrem Telefon und folgen Sie den Aufforderungen, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln. Sobald diese gekoppelt wurde, werden Sie über den Bildschirm Ihrer Uhr durch das Setup-Verfahren geleitet.

Gehen Sie für weitere Informationen auf axconnected.com.

Apple und das Apple Logo sind Handelsmarken von Apple, Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple, Inc. Wear OS by Google und das Google Play sind Handelsmarken von Google, LLC.

HERZFREQUENZTRACKING

TÄGLICHER GEBRAUCH: Trage das Armband oberhalb deines Handgelenkknochens mit der Uhr flach auf der Haut.
BEIM TRAINING: Ziehe das Armband fest und schiebe die Uhr am Handgelenk hoch. Nach Abschluss lösen.

ÉTAPE 1 : CHARGEMENT

Connectez votre montre au chargeur. Lorsque votre montre est chargée, appuyez sur le bouton pour l'allumer.

ATTENTION : pour éviter d'endommager votre montre, utilisez uniquement le chargeur inclus.

N'utilisez pas d'hub USB, de répartiteur USB, de câble USB en Y, de bloc batterie ou d'autre périphérique pour charger.

ÉTAPE 2 : DÉMARRAGE

Sur votre téléphone, téléchargez l'application Wear OS by Google™ dans l'App StoreSM ou Google Play™.

Ouvrez l'application Wear OS by Google™ sur votre téléphone et suivez les instructions pour synchroniser votre montre à votre téléphone. Une fois votre montre synchronisée, l'écran vous guidera à travers les procédures de configuration.

Rendez-vous sur axconnected.com pour plus d'informations.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc. Wear OS by Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

SUIVI DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

UTILISATION QUOTIDIENNE: Portez le bracelet au-dessus de l'os du poignet avec la montre à plat contre la peau.

EXERCICE: Serrez le bracelet et placez la montre plus haut sur votre poignet. Desserrez quand fini.

PUNTO 1: RICARICA

Collega il tuo orologio ad un caricatore. Quando l'orologio è carico, premi il tasto per accenderlo.

ATTENZIONE: onde evitare danni all'orologio, usare soltanto il caricatore in dotazione.

Non usare un hub USB, uno splitter USB, un cavo USB a "Y", un battery pack o altri dispositivi periferici per caricare il dispositivo.

PUNTO 2: INTRODUZIONE

Sul tuo telefono, scarica l'app Wear OS by Google™ da App StoreSM o Google Play™ Store.

Apri l'app Wear OS by Google™ sul tuo telefono e segua le istruzioni per l'accoppiamento dell'orologio con il telefono. Una volta eseguito l'accoppiamento, il quadrante dell'orologio indicherà le procedure di configurazione da seguire.

Per ulteriori informazioni visitare axconnected.com.

Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Wear OS by Google e Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

MONITORAGGIO FREQUENZA CARDIACA

USO QUOTIDIANO: Indossare il cinturino sopra l'osso del polso, mantenendo l'orologio in piano sulla pelle.

ESERCIZIO: Stringere il cinturino e spostare ulteriormente l'orologio sopra al polso. Allentare quando fatto.

PASSO 1: CARREGAR

Ligue o seu relógio ao carregador. Quando o seu relógio estiver carregada, carregue no botão para ligá-lo.

AVISO: Para evitar danificar o seu relógio, utilize apenas o carregador incluído.

Não use um concentrador USB, divisor USB, cabo Y USB, conjunto de baterias ou outro dispositivo periférico para carregar.

PASSO 2: COMEÇAR

No seu telefone, transfira a app Wear OS by Google™ a partir da App StoreSM ou da Google Play™ Store.

Abra a aplicação Wear OS by Google™ no seu telefone e siga as indicações para emparelhar o seu relógio com o seu telefone. Depois de emparelhado, o ecrã do seu relógio guia-lo-á através dos procedimentos de configuração.

Visite axconnected.com para mais informações.

Apple e o logótipo Apple são marcas registadas de Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. App Store é uma marca de serviço de Apple Inc. Wear OS by Google e Google Play são marcas registadas de Google LLC.

CONTROLLAR DA FREQUENZA CARDIACA

UTILIZAÇÃO DIÁRIA: Utilize a correa acima do osso do seu pulso com o relógio plano contra a sua pele.

EXERCÍCIO: Aperte a correa e mova o relógio mais alto do que o seu pulso. Solte quando terminar.

PASO 1: CARGA

Conecte el reloj al cargador. Cuando el reloj esté cargado, presione el botón para encenderlo.

ADVERTENCIA: Para prevenir daños en su reloj, utilice únicamente el cargador que se proporciona.

No utilice un concentrador USB, un distribuidor USB, un cable en "Y" USB, una batería portátil u otros dispositivos periféricos para cargar.

PASO 2: EMPEZAR

Descargue la aplicación Wear OS by Google™ en la App StoreSM o Google Play Store™ en el teléfono.

Abre la app Wear OS by Google™ en tu teléfono y sigue las indicaciones para emparejar el reloj con tu teléfono. Una vez emparejada, la pantalla de tu reloj te guiará por los procesos de la instalación.

Para más información, visite axconnected.com.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Wear OS by Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

SEGUIMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA

USO DIARIO: Lleve puesta la correa por encima del hueso de la muñeca con el reloj extendido contra la piel.

EJERCICIO: Ajuste la correa y mueva el reloj más arriba en la muñeca. Aflojar cuando haya terminada.

KROK 1: ŁADOWANIE

Podłącz zegarek do ładowarki. Po naładowaniu akumulatora zegarka naciśnij przycisk włączający urządzenie.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia zegarka, należy używać wyłącznie dołączonej ładowarki.

Do ładowania nie należy używać koncentratora ani rozdzielacza USB, kabla USB typu Y, akumulatorów wieloogniwowych ani innych urządzeń peryferyjnych.

KROK 2: WPROWADZENIE

Pobierz na swoim telefonie aplikację Wear OS by Google™ ze sklepu App StoreSM lub Google Play™.

Uruchom aplikację Wear OS by Google™ na telefonie i postępuj zgodnie z komunikatami, aby sparować zegarek z telefonem. Następnie na ekranie zegarka zostaną wyświetlone instrukcje umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie axconnected.com.

Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Wear OS by Google oraz Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

MIERZENIE PULSU

CODZIENNE UŻYTKOWANIE: Załóż pasek powyżej kości nadgarstka w taki sposób, aby zegarek przylegał do skóry.

ĆWICZENIA: Zaciśnij pasek i przesuń zegarek w górę nadgarstka. Po zakończeniu poluzuj pasek.

1. ADIM : ŞARJ

Saatinizi şarj cihazına bağlayın. Şarj olduğunda saatinizi açmak için düğmeye basın.

UYARI: Saatimize zarar gelmesini önlemek için yalnızca içerikteki şarj cihazını kullanın.

Cihazınızı şarj etmek için USB çözümlü, USB bölücü, USB y-kablosu, pil takımı ya da diğer çevre birimlerini kullanmayın.

2.ADIM: BAŞLARKEN

Telefonunuzdan App Store™ ve Google Play™ Mağazasından Wear OS by Google™ indirin.

Telefonunuzda Wear OS by Google™ uygulamasını açın ve saatinizi telefonunuza eşleştirmek için iletileri takip edin. Eşleştikten sonra saat ekranınıza kurulum işlemleri için rehberlik sunulacaktır.

Daha fazla bilgi için axconnected.com adresini ziyaret edin.

Apple ve Apple logosu Apple Inc.'in ticari markalarıdır ve bu markalar ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlıdır. App Store Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Wear OS by Google ve Google Play in ticari markalarıdır Google LLC.

KALP ATIŞI TAKİBİ

GÜNLÜK KULLANIM: Kayış saat teninize düz olacak şekilde bileğinizin üstüne takın.

EGZERSİZ: Kayış sıkıştırın ve saati bileğinizizde yukarıya hareket ettirin. Bittiğinde gevşetin.

الخطوة 1: الشحن

قم بتوصيل ساعتك إلى الشاحن. عندما يتم شحن ساعتك، قم بالضغط على الزر لتشغيلها.

تلميح: لتجنب تلف ساعتك، استخدم الشاحن المرفق فقط.

أو شاحن محمول أو أي جهاز USB y-cable أو وصلة USB أو مقسم USB لا تستخدم موزع جاري آخر للشحن.

الخطوة 2: استعد البده

على هاتفك وابع التعليمات لإقران ساعتك بهاتفك. عند إقرانهم معاً Wear OS by Google™ افتح تطبيق ستقوم شاشة ساعتك بتفكك عبر إجراءات الإعداد.

على هاتفك وابع التعليمات لإقران ساعتك بهاتفك. عند إقرانهم معاً Wear OS by Google™ افتح تطبيق ستقوم شاشة ساعتك بتفكك عبر إجراءات الإعداد.

لمزيد من المعلومات axconnected.com قم بزيارة

App Store هو بعي شركة مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. Apple Inc. هي علامة تجارية لعلامة لشركة Apple وتعد Apple Inc. و Google LLC. كلها علامات تجارية عامة لشركة Google Play وWear OS by Google وApp Store هي علامات تجارية لعلامة لشركة Apple Inc. و Apple Inc. هي علامة تجارية لعلامة لشركة Apple Inc. و Apple Inc. هي علامة تجارية لعلامة لشركة Apple Inc. و Apple Inc. هي علامة تجارية لعلامة لشركة Apple Inc.

تتعب دقائق القلب

الاستخدام اليومي: اربط الشريط فوق عظمة رسغك على أن تكون الساعة مسطحة على بشرتك.

تلميح: اربط الشريط فوق الساعة لتكون أعلى من رسغك. فكه بعد الاثنياء

L' ANGAH 1: ISI DAYA

Hubungkan jam tangan Anda ke pengisi daya. Ketika jam tangan sedang diisi daya, tekan tombol untuk menghidupkannya.

PERINGATAN: Untuk menghindari kerusakan pada jam tangan Anda, hanya gunakan pengisi baterai yang disertakan.

Mohon untuk tidak menggunakan hub USB, splitter USB, kabel y USB, baterai, atau perangkat tambahan lainnya untuk mengisi daya.

LANGKAH 2: MEMULAI

Di ponsel Anda, unduh aplikasi Wear OS by Google™ dari App Store™ atau Google Play™ Store.

Buka aplikasi Wear OS by Google™ pada ponsel Anda dan ikuti petunjuk untuk menyandingkan jam tangan dengan ponsel Anda. Setelah disandingkan, layar jam tangan Anda akan memandu Anda melewati prosedur pengaturan.

Kunjungi axconnected.com untuk informasi tambahan.

Apple dan logo Apple adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain. App Store adalah merek layanan dari Apple Inc. Wear OS by Google dan Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.

PELACAKAN DETAK JANTUNG

PENGUNAAN SEHARI-HARI: Kenakan tali di atas tulang pergelangan tangan Anda dengan jam tangan menempel rata di atas kulit Anda.

LATIHAN: Kencangkan tali dan pindahkan jam tangan lebih tinggi pada pergelangan tangan Anda. Kendurkan bila sudah selesai.

ステップ 1: 充電

ウォッチを充電器に接続してください。ウォッチの充電が完了したら、ボタンを押して電源をオンにしてください。

警告: 時計への損傷を避けるため、同梱の充電器のみご使用ください。
USBハブ、USBスプリッター、USB Yケーブル、電池パックやその他の周辺機器を充電に使用しないでください。

ステップ 2: 開始

スマートフォンで、App StoreSMまたはGoogle PlayTMストアからWear OS by GoogleTMアプリをダウンロードしてください。

携帯のWear OS by GoogleTMアプリを開き、画面の指示に従ってウォッチと携帯をペアリングします。ペアリングが完了したら、ウォッチの画面にセットアップの案内が表示されます。

詳細はaxconnected.comをご覧ください。

AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Wear OS by GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

心拍数トラッキング

日常: ストラップを手根骨(手首の関節の骨)の上に装着し、ウォッチが肌に平らに当たるようにしてください。

運動時: ストラップをしっかり締め、ウォッチが手首の高い位置に来るようにしてください。完了したら緩めます。

第1歩:

充電 将手表连接到充电器。手表充电完毕后，按下按钮将其开启。

警告: 为了避免损害您的手表，请使用原装充电器。

不要使用USB集线器、USB分配器、USB y-cabl多功能数据线、电池组或其他外围设备充电。

第2歩: 开始

从App StoreSM或Google PlayTM商店下载Wear OS by GoogleTM应用程序到手机中。

对于中国用户:

1. 手表开机，点击屏幕开始，向上滑动屏幕确认相关条款。
2. 使用手机扫描手表屏幕二维码，下载并安装 WearOS by GoogleTM 中国版app。
3. 打开 WearOS by GoogleTM 中国版app，跟随提示完成手机和手表的 配对、同步。

访问axconnected.com，了解更多信息。

Apple与Apple的标志是苹果公司在美国以及其他国家注册的商标。Apple Store是苹果公司的一一个服务商标。Wear OS by Google和Google Play是Google LLC的商标。

心率追踪

日常使用: 将表带戴在腕骨上，让手表平贴您的皮肤。

运动: 收紧表带，将手表向手腕的更高处移动。完成后松开。

第1歩: 充電

将手表连接到充电器。手表充电完毕后，按下按钮将其開啟。

警告: 为了避免损坏您的手表，只能使用原装充电器。

不要使用USB集線器、USB分配器、USB y-cable多功能線、電池組或其他週邊裝置充電。

第2歩: 開始

從App StoreSM或Google PlayTM商店下載Wear OS by GoogleTM應用程式到手機中。

在您的手機上打開Wear OS by GoogleTM應用程式，遵照提示將手表與您的手機配對。配對完成後，您的手表屏幕將引導您完成設定程序。

請訪問axconnected.com，了解補充信息。

Apple和Apple標誌是蘋果公司在美國以及其他國家註冊的商標。App Store（應用商店）是蘋果公司的服務標誌。Wear OS by Google Google和Google Play是Google LLC的商標。

心率追蹤

每日使用: 將錶帶配戴在您的腕骨之上，而錶底貼靠於您的皮膚。

鍛煉: 將錶帶緊緊並且將手表移至您的手腕上較高處。完成後鬆開。

1 단계: 충전

귀하의 시계를 충전기에 연결하십시오. 귀하의 시계가 충전되면, 시계가 커지도록 버튼을 누르십시오.

경고: 시계 손상을 방지하려면, 반드시 동봉된 충전기만을 사용해야 합니다.

USB 허브나 USB 분배기, USB Y 케이블, 배터리 팩, 다른 주변 기기를 사용하여 충전하지 마십시오.

2 단계: 시작하기

귀하의 폰의 앱 스토어™ 또는 구글 플레이™에서 안드로이드 웨어™ 앱을 다운로드하십시오.

폰 Wear OS by Google™을 언 후, 시계와 폰 페어링 절차를 따라 주세요. 페어링이 되면, 시계 화면 설정 절차를 따라 주세요.

보다 자세한 정보를 원하시면 axconnected.com를 방문하십시오.

Apple과 Apple 로고는 미국 및 기타 국가들에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. Wear OS by Google 및 Google Play Google LLC의 상표입니다.

심박 수 추적

매일 사용: 시계가 피부에 밀착되도록 팔목 뼈 위에 시계 줄을 착용하세요.

운동: 줄을 단단하게 고정된 다음 시계를 팔목 위 부분으로 올려 주세요. 완료 되면 살짝 풀어 주세요.

ขั้นตอนที่ 1: ชาร์จ

เชื่อมต่อนาฬิกาของคุณไปยังตัวชาร์จ เมื่อนาฬิกาของคุณชาร์จ อยู่ กดปุ่มเพื่อเปิดมัน

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อนาฬิกาของคุณ โปรดใช้ที่ชาร์จที่รวมมาด้วยเท่านั้น

อย่าใช้ขั้ว USB ตัวแบ่ง USB สายเคเบิล USB แบบตัว Y ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เพื่อชาร์จ

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้น

บนโทรศัพท์ของคุณ ดาวน์โหลดแอป Wear OS by Google™ จาก App Store™ หรือ Google Play™ Store

เปิดแอป Wear OS by Google™ บนโทรศัพท์ของคุณแล้วทำตาม คำเตือนเพื่อจับคู่นาฬิกาของคุณเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ เมื่อจับคู่ แล้ว หน้าจอนาฬิกาของคุณจะนำทางคุณไปตามขั้นตอนการตั้งค่า

เยี่ยมชม axconnected.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. Wear OS by Google และ Google Play ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ

การใช้งานประจำวัน: วัสดุสายเหนือกระดูกข้อมือของคุณโดยโหนดนาฬิกาความตึงกับผิวหนังของคุณ การออกกำลังกาย: วัสดุสายโหนดนาฬิกาให้สูงขี้นบนข้อมือของคุณ ปรับให้หลวมเมื่อใช้เสร็จแล้ว

ШАГ 1: ЗАРЯДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините часы к зарядному устройству. После того как часы зарядятся, нажмите кнопку, чтобы включить их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения часов используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте.

Не используйте для зарядки USB-концентратор, USB-сплиттер, USB-разветвитель, резервный аккумулятор или другое периферийное устройство.

ШАГ 2: ЗАГРУЗКА И СОПРЯЖЕНИЕ

Загрузите на смартфон приложение Wear OS by Google™ из App Store™ или Google Play™.

Откройте приложение Wear OS by Google™ на смартфоне и следуйте подсказкам по сопряжению часов по каналу Bluetooth™. По окончании сопряжения следуйте указаниям на экране часов для выполнения процедуры настройки.

На сайте axconnected.com представлена дополнительная информация.

Название Apple и логотип Apple являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Wear OS by Google и Google Play являются торговыми марками компании Google LLC.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПУЛЬСА

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Затяните ремешок на запястье таким образом, чтобы часы плотно прилегали к коже.

ТРЕНИРОВКА: Затяните ремешок и поднимите часы вверх по запястью. Ослабьте ремешок, когда закончите.

KROK 1: NABÍJENÍ A ZAPNUTÍ

Připojte hodinky k nabíječe. Když jsou hodinky nabitě, zapněte je stisknutím tlačítka.

VAROVÁNÍ:Chcete-li předejít poškození hodinek, používejte pouze nabíječku, která je součástí balení.

Pro nabíjení nepoužívejte USB rozdvojku, USB rozbočovač, USB y-kabel, akumulátor ani jiné periferní zařízení.

KROK 2: STAŽENÍ A PÁROVÁNÍ

Stáhněte si do telefonu aplikaci Wear OS by Google™ z obchodu App Store™ nebo Google Play™.

Spusťte v telefonu aplikaci Wear OS by Google™ a postupujte podle pokynů pro párování hodinek pomocí připojení Bluetooth™. Po párování vás obrazovka hodinek provede nastavením.

Další informace naleznete na stránkách axconnected.com.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Wear OS by Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ: Noste pásek na zápěstní kosti s hodinkami rovně proti pokožce.

CVIČENÍ: Pásek utáhněte a hodinky posuňte na zápěstí nahoru. Po dokončení uvolněte.

BÚČ 1: SẠC VẢ BẬ NGUỒN

Kết nối đồng hồ với sạc. Khi đồng hồ được sạc, hãy ấn nút để bật nguồn.

CẢNH BẢO: Để tránh làm hỏng đồng hồ, chỉ sử dụng sạc đi kèm.

Không dùng cổng USB, bộ chia USB, cáp USB chữ Y, bộ pin hoặc thiết bị ngoại vi khác để sạc.

BÚC 2: TẢ VẾ VẢ KẾT NỐI

Trên điện thoại, hãy tải về ứng dụng Wear OS by Google™ từ App Store™ hoặc Google Play™ Store.

Mở ứng dụng Wear OS by Google™ trên điện thoại và làm theo gợi ý để kết nối đồng hồ của bạn sử dụng qua Bluetooth™. Khi đã kết nối, màn hình đồng hồ của bạn sẽ hướng dẫn bạn cụ thể các quy trình cài đặt.

Hãy ghé thăm axconnected.com để biết thêm thông tin.

Apple và logo của Apple là những nhãn hiệu của Tập đoàn Apple được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Tập đoàn Apple. Wear OS by Google và Google Play là những nhãn hiệu của Tập đoàn Google LLC.

THEO DÕI NHP TÌM

SỬ DỤNG HÀNG NGÀY: Đeo dây đồng hồ phía trên xương cổ tay với mặt dây đồng hồ áp vào da.

TẬP THỂ DỤC: Thắt chặt dây đồng hồ và đưa đồng hồ cao hơn cổ tay bạn.

Nới lỏng khi hoàn thành.